


يا الله

الذليل والذل
وعلی الیک واطحابک یا حبیب الله

یا رسول الله



جبادو، ٹونا کے اثرات سے بدکا آیات سے آتی سے علاج

بفیضان نظر

قدوة الاولیاء، شہزادہ غوث الوری، شیخ المشائخ، التقیب الاشراف

السید طاہر علاء الدین القادری صاحب مدنی

مرتب و مترجم

ابتداء العلام حضرت علامہ
مفتی قادی محمد عرفان اللہ قادری

شیخ الحدیث جامعہ تجویریہ داتا گنج بخش لاہور

خطیب جامع مسجد غوثیہ رضویہ Q بلاک ماڈل ٹاؤن

0333-6901918

زیر اہتمام

رانا محمد جاوید القادری الطاہری

مہتمم اعلیٰ جامع مسجد غوثیہ رضویہ

میلاد پارک Q بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىٰ أٰلِكَ وَآصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

انتساب

- ☆ حضور پرنور، شافع یوم النشور، آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ مطہرہ مقدسہ اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے پنچتن پاک، شہدائے کربلا اور جملہ اہل بیت و اصحاب رسول ﷺ
- ☆ حضرت پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث صمدانی، قدیل نورانی، عرفان ولایت سیدنا ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
- ☆ امام العارفين زبدة السالکین حجتہ الکاملین سند الواصلین حضرت سیدنا مخدوم ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ قدوة الاولیاء شہزادہ غوث الوری شیخ المشائخ نقیب الاشراف حضور السید طاہر علاؤ الدین الحسنی الحسینی الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے نام نامی و اسم گرامی سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں

ذرة خاکِ راہِ طیبہ و بغداد

محمد عرفان اللہ اشرفی قادری

حرفِ اولین

جادو کرنا اور کروانا کفریہ عمل ہے اس کا بہت رواج ہے۔ ہمارے ہاں جادو گروں اور عاملوں کی اکثریت کفریہ اعمال و اقوال کے ذریعے جادو کرتی ہے۔ گلی گلی عاملوں کے ڈیروں نے جادو ٹونے میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے ذاتی دشمنی و عداوت اور کاروبار میں حسد و رقابت وغیرہ کی بناء پر ذہنی سکون برباد کرنے، مختلف امراض و مشکلات سے دوچار کرنے، ہمسائے سے نجات حاصل کرنے حتیٰ کہ میاں بیوی میں جدائی اور فرقت ڈالنے کے لئے ایک دوسرے پر جادو کروایا جاتا ہے اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جادو ٹونے میں مبتلا حضرات اپنے علاج کے لئے ایسے عاملین کی طرف رجوع کرتے ہیں جو سفلی و شیطانی علوم کے ذریعے جنات کو خوش کر کے جادو کا علاج کرتے ہیں جو مصیبت پر مصیبت ہے اور علاج کی بجائے مرض میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر جادو ٹونے کے اثرات بد وغیرہ کا آیات قرآنی سے علاج درج کیا جا رہا ہے۔

اگر کسی پر جادو ٹونہ کے اثرات ہوں یا آسیب، جن کا سایہ ہو جس کے باعث وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا یا فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہو جائے یا دیگر گھریلو و کاروباری پریشانیاں لاحق ہو جائیں تو اس سے نجات کے لئے وہ روزانہ درج ذیل آیات مع درود غوثیہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درج ذیل طریقہ کے مطابق خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر یا کسی اچھے قاری سے سن کر ہاتھ پر پھونک مار کر پورے بدن پر مسح کرے اور پانی پر دم کر کے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرے اور یہ پانی خود پیے اور گھر کے دیگر افراد کو پلائے۔

انشاء اللہ وہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ اور ہر قسم کے جادو وغیرہ کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔

طریقہ تلاوت

- ۱۔ درود غوثیہ گیارہ مرتبہ
- ۲۔ سورۃ الفاتحہ (مکمل)
- ۳۔ سورۃ البقرۃ کی ابتدائی پانچ آیات
- ۴۔ سورۃ البقرۃ کی آیت 102،
- ۵۔ سورۃ البقرۃ کی آیت 163-164
- ۶۔ سورۃ البقرۃ کی آیت 255 (آیت الکرسی)
- ۷۔ سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات 285-286
- ۸۔ سورۃ ال عمران کی آیات 18-19
- ۹۔ سورۃ الاعراف کی آیات 54 تا 56
- ۱۰۔ سورۃ الاعراف کی آیات 117 تا 122 (سات مرتبہ) پڑھنے کے بعد
آیت نمبر 120 (وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ) گیارہ مرتبہ
- ۱۱۔ سورۃ یونس کی آیات 81-82 (سات مرتبہ) پڑھنے کے بعد آیت
نمبر 81 کا یہ جملہ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ سَاتِ مَرْتَبَةً
- ۱۲۔ سورۃ طہ کی آیت 69 (سات مرتبہ)
- ۱۳۔ سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات 115 تا 118
- ۱۴۔ سورۃ الصافات کی ابتدائی دس آیات
- ۱۵۔ سورۃ الاحقاف آیات 29 تا 32
- ۱۶۔ سورۃ الرحمن کی آیات 33 تا 36
- ۱۷۔ سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات 21 تا 24

۱۸۔ سورۃ الجن کی ابتدائی 9 آیات

۱۹۔ سورۃ الاخلاص (مکمل) 3 مرتبہ

۲۰۔ سورۃ الفلق (مکمل) (تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت نمبر 4

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سَاتِ مَرْتَبَةٍ)

۲۱۔ سورۃ الناس (مکمل) تین مرتبہ

نوٹ: سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں سورتیں مذکورہ بالا

طریقہ کے مطابق سات مرتبہ پڑھیں۔

۲۲۔ درود غوثیہ گیارہ مرتبہ

☆ نیز جادو ٹونے سے حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ انسان ہر نماز کے

بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔

☆ سورۃ البقرۃ کی گھر میں تلاوت کرنا بھی جادو سے حفاظت اور جادو

ہو جانے کی صورت میں اس سے نجات کے لئے بہت مفید ہے

آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جادو

ٹونہ کے اثرات بد، شر جنات، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے محفوظ

رکھے۔ آمین بجاہِ رحمۃ للعالمین ﷺ۔

درود غوثیہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَ

یا اللہ! تو کرم و سخا کی کان، علم و حلم اور حکمت و دانائی کے سرچشمہ ہمارے آقا و مولا

مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرما

☀ درود غوثیہ گیارہ مرتبہ پڑھیں

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان

الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

ہے۔ روزِ جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں

المُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝

نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔

(الفاتحہ: ۱-۷)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

الْم ۝ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

الف۔ لام۔ میم۔ یہ عالیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ان پرہیزگاروں کے لئے

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے

يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ

(ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں نیز وہ جو اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو (اے حبیب)

قَبْلِكَ ۝ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن

آپ ﷺ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں

رَبِّهِمْ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں

(البقرة ۲: ۵۱)



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

وَآتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ

اور وہ اس (کفریہ جادو منتر) کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں شیطان

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ

پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان (علیہ السلام) نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا کہ وہ

النَّاسَ السَّحَرَفَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِ

لوگوں کو (کفریہ) جادو سکھایا کرتے اور انہوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو (شہر) بابل میں دو

هَارُوتَ وَمَارُوتَ ط وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا

فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ اور وہ (فرشتے) کسی کو (کچھ) نہیں سکھاتے تھے جب تک

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہذا تم (اسے سیکھ کر عمل کر کے) کفر نہ کرو۔ اس کے

يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ط وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ

باوجود وہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے وہ خاوند اور اس کی بیوی کے

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا

درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ اور وہ اس سے اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے

يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي

اور وہ اس چیز کو سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی۔ اور وہ بے شک خوب جانتے تھے کہ جس نے

الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ط

اس (جادو) کو خرید لیا اس کا آخرت میں (رحمت الہی سے) کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ چیز ضرور بڑی ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش وہ یہ جان لیتے

☀ سورۃ البقرۃ کی درج بالا آیت سات مرتبہ پڑھیں۔ (البقرۃ ۲: ۱۰۳)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔

الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں

اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي

ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھائے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں

الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ

چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ

مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ

کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں


كُلِّ دَابَّةٍ صَوًّا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں (ان سب میں)

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

عقل مندوں کے لئے (اللہ کے عرفان کی بے شمار) نشانیاں ہیں۔

(البقرة: ۲-۱۶۳-۱۶۴)



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اٹکھ آتی ہے

وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَن

اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (سب) اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے

ذَٰلِذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان (لوگوں) کے سامنے

وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

ہے اور جو ان (لوگوں) کے پیچھے ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر

بِمَآ شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ

جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی (حکومت) نے آسمانوں اور زمینوں کو سمار رکھا ہے اور ان (زمین و آسمان)

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہی بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔

(البقرة ۲: ۲۵۵)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ

یہ (عظیم الشان) رسول اس (کتاب پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی اور

كُلُّ امْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ

سب مومن بھی۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر (یہ کہتے ہوئے) سب

بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قَفَّ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

ایمان لائے کہ ہم (ایمان لانے میں) اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ نیز

غُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب! ہم تیری ہی بخشش کے طلبگار

نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

ہیں اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی اس کی

اَكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِينَا اَوْ اَخْطَا نَا ج

طاقت ہو۔ اُس نے جو (نیک کام) کیا اُس کا نفع اسی کے لئے ہے اور اُس نے جو (براکام) کیا اُس کا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى

ضرر اور وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب! ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔

بِهٖ ج وَاَعْفُ عَنَّا وَقْفَةً وَاغْفِرْ لَنَا وَقْفَةً وَاَرْحَمْنَا وَقْفَةً

اے ہمارے رب! ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت میسر نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں

اَنْتَ مَوْلَانَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

بخش دے، اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مالک و مددگار ہے۔ لہذا کافروں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔

(البقرة ۲: ۲۸۵، ۲۸۶)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

اللہ تعالیٰ نے (اس بات کی) گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور فرشتوں نے

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور اہل علم نے بھی عدل سے قائم ہو کر۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت غلبے والا اور بڑی

الذِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا

حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب کے پاس

الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ

صحیح علم آجانے کے بعد ہی انہوں نے باہمی حسد و عناد کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور جھگڑا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

کیا۔ اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

(ال عمران ۳: ۱۸، ۱۹)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا پھر وہ (اپنی

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ قَفْ يَغْشَىٰ اللَّيْلَ

شان کے لائق) عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن میں چھپا لیتا ہے (اور دن) اس کے پیچھے

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ لَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

تیزی سے دوڑتا ہے۔ اور (اس نے) سورج، چاند اور ستاروں کو (پیدا کیا) وہ سب اس کے حکم کے

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ط لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبْرَكَ

پابند ہیں، سن لو! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لئے خاص ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

جہانوں کا رب ہے۔ تم اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ دعا کرو۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے

وَّخُفْيَةً ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي

والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم زمین میں اس کے درست ہونے کے بعد فساد نہ کرو۔ اور اس

الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ط

(رب) سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ بے شک اللہ کی

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔

(الاعراف: ٤: ٥٦ تا ٥٣)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥٧﴾

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ج فَإِذَا هِيَ

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو چنانچہ اسی وقت فوراً وہ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا

(عصا) ان (کے جادو) کی فریب کاری کو نکلنے لگا۔ پس حق (کا غلبہ) ثابت ہو گیا اور

يَعْمَلُونَ ۝ فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝

وہ جو کچھ (جادو) کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا چنانچہ وہاں فرعونی مغلوب ہو گئے

وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

اور ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے اور جادو گر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم

الْعَلَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔

(الاعراف: ۷: ۱۱۱ تا ۱۲۲)

☀ سورۃ الاعراف کی درج بالا آیات سات مرتبہ پڑھیں اس کے بعد

وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ۝ گیارہ مرتبہ پڑھیں



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں

فَلَمَّا أَقْوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ لَاسِحْرُ طَانٍ

پھر انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے بے شک اللہ سے

اللَّهُ سَيَبْطِلُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

عنقریب نیست و نابود کر دے گا بے شک اللہ فسق کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا اور اللہ اپنے

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

کلمات و ارشادات سے حق کا حق ہونا ثابت فرماتا ہے خواہ مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں

(یونس: ۱: ۸۲-۸۱)

☀ سورۃ یونس کی درج بالا آیات سات مرتبہ پڑھیں

اس کے بعد إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ ۝ سات مرتبہ پڑھیں

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسروں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سِحْرٌ ط وَلَا يُفْلِحُ

بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے۔

السِّحْرِ حَيْثُ أَتَى ۝

جادوگر جہاں کہیں بھی جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا

سورۃ طہ کی درج بالا آیات سات مرتبہ پڑھیں (طہ: ۲۰: ۶۹)



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسروں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے کار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں

تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ

لوٹائے جاؤ گے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ

إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ

بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جیسی اس

اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَاِنَّمَا حِسَابُهُ

کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ بلاشبہ کافر کامیاب

عِنْدَ رَبِّهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ

نہیں ہوں گے اور (اے حبیب!) آپ ہیں عرض کریں کہ اے میرے رب! مغفرت فرما، رحم

اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ۝

فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے

(المؤمنون ۲۳: ۱۱۵-۱۱۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

وَالصَّفَاتِ صَفًا ۝ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِيَّتِ

فرشتوں کی صف بستہ ان جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں پھر خوب جھڑکنے والی جماعتوں

ذِكْرًا ۝ اِنَّ الْهٰكُمَ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کی قسم پھر قرآن کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم! بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔

وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيْنًا السَّمَاۤءِ الدُّنْيَا

جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔

بَزِيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا۔ اور (اسے) ہر سرکش شیطان

لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَى الْمَلَا الْاَعْلٰى وَيُقَدِّفُوْنَ مِنْ كُلِّ

سے محفوظ کر دیا۔ وہ (شیاطین) عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سن سکتے اور ان کو بھگانے کے

جَانِبٍ ۝ دُحُوْرًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ

لئے ان پر ہر طرف سے ضرب لگائی جاتی ہے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان

خَطِيفَ الْخَطِيفَةِ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

کسی بات کو اچک لے تو فوراً چمکتا ہوا انگارا اس کا پیچھا کرتا ہے۔

(الصافات ۱۰ تا ۱۳)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

اور (اے حبیب! آپ یاد فرمائیے) جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر

الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ

لائے جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے پس جب وہ آپ (نبی) کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں

وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۝ قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا

نے (آپس میں) کہا خاموش رہو، پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے

سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا

ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ

موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے حق کی طرف

مُسْتَقِيمٍ ۝ يَقَوْمْنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ

اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ

بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں

الْأِيمِ ۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

دروناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلائے والے کی بات نہ مانے تو وہ


فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۝ ط

زمین میں (نہیں بھاگ کر) اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

(الاحقاف، ۴۶: ۲۹ تا ۳۲)



اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ

اے جن و انس کے گروہ! اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت رکھتے

أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا

ہو تو نکل جاؤ۔ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ تو (اے جن و انس!) تم اپنے

بِسُلْطَنِ ۝ فَبَايَ الْآءِ رَبَّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝ يُرْسَلُ

رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟۔ (اے جھٹلانے والو!) تم پر (قیامت کے دن) آگ

عَلَيْكُمْ شَوْاطِظٌ مِّنْ نَّارِهِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۝

کا خالص شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا۔ پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔

فَبَايَ الْآءِ رَبَّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝

پس اے (جن و انس) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟۔

(الرحمن، ۵۵: ۳۳ تا ۳۶)



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے دوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اسے مخاطب!) تو اسے ضرور (اللہ کے لئے)

مُتَّصِدًا عَامِنٌ خَشِيَةَ اللَّهِ ۝ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لئے بیان

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر پوشیدہ

إِلَّا هُوَ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ هُوَ الرَّحْمَنُ

اور ظاہر کو جاننے والا ہے وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس

الرَّحِيمِ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ الْمَلِكُ

کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب کا بادشاہ ہے، بہت پاک، ہر نقص سے سالم، امان بخشنے والا،

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

تکمہبان، بہت غالب، نہایت عظمت والا اور کبریائی والا ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک

الْمُتَكَبِّرُ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے سب کا خالق، ایجاد فرمانے والا،

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي

صورت بنانے والا۔ سب اچھے نام اسی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اسی کی تسبیح کرتی ہیں وہ نہایت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے

(الحشر ۵۹: ۲۱ تا ۲۳)



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا

(اے محبوب!) آپ فرمائیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا

(قرآن) کو غور سے سنا تو انہوں نے (اپنی قوم سے) کہا بے شک ہم نے بہت عجیب قرآن سنا

بِهِ ۚ وَلَكِن نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحْدًا ۝ وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ

جو سیدھی راہ کی طرف راہ دکھاتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کا کسی کو ہرگز

رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَإِنَّهُ كَانَ

شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے اس نے (کسی کو) نہ

يَقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝ وَأَنَا ظَنَّا أَنْ لَنْ

(اپنی) بیوی بتایا اور نہ ہی اولاد اور یہ کہ ہم میں سے احمق اور بے ذوق لوگ اللہ کے متعلق حد

تَقُولَ الْإِنْسِ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَأَنَّهُ

سے گزری ہوئی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز

كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

جھوٹ نہ باندھیں گے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ

لیتے تھے تو انہوں نے ان (جنوں) کی سرشتی کو بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ

يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

(اے گروہ جنات!) تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو (مرنے کے بعد) ہرگز زندہ نہیں کرے گا اور یہ

مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝ وَأَنَا كُنَّا

کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اس کو سخت محافظوں اور آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا پایا اور یہ

نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَسْمَعُ

کہ ہم (اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں) سننے کے لئے اس کے کچھ ٹھکانوں پر بیٹھ جاتے تھے

الآن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

لیکن اب جو کوئی کان لگائے تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ تیار پائے گا۔

(الجن: ۷۲: ۹۷)



سورة الاخلاص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝

(اے حبیب!) آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ہے یکتا، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

☀ سورة الاخلاص تین مرتبہ پڑھیں (الاخلاص:۱۲۲:۴۳۱)

سورة الفلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ

(اے حبیب!) آپ فرمائیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے

شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِ فِي

پیدا کیا اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں بہت پھونک مارنے والی

الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے

(الفلق:۱۱۳:۵۳۱)

☀ سورة الفلق تین مرتبہ پڑھنے کے بعد

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثِ فِي الْعُقَدِ سَاتِ مَرْتَبَةً پڑھیں

سورة الناس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝

(اے حبیب!) آپ فرمائیں کہ میں سب لوگوں کے رب کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی اور

اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں دوسرے ڈالنے والے،

الَّذِیْ یُوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

دوسرے ڈالتا ہے جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔

☀ سورة الناس تین مرتبہ پڑھیں (الناس ۱۱۴:۶ تا ۶)

نوٹ: مذکورہ بالا تینوں سورتیں مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق سات مرتبہ پڑھیں

درود غوثیہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَ

یا اللہ! تو کرم و سخا کی کان، علم و حلم اور حکمت و دانائی کے سرچشمہ ہمارے آقا و مولا

مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرما

☀ درود غوثیہ گیارہ مرتبہ پڑھیں

ہر وہاب سے بچاؤ کے لئے

بِئِ نَحْمَسُهُ أَطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ
الْبُصْطَفِيِّ وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ



اسے لکھ کر مکان پر لگائیں ہر وہاب سے
بچاؤ کے لیے موثر ہے